

# Num

## Chapter 29

Urdu Interlinear

Reference: Urdu Geo Version

1	וּבְחֹדֶשׁ	הַשְּׁבִיעִי	בְּאַחַד	לְחֹדֶשׁ	מִמְקָרְאֵי	קָרְנֵי	יְהוּיָהּ	לָכֶם	כָּל־	מִלְאֲכַת	עֲבָדָה
	اور-مہینے-میں	ساتویں	پہلی	مہینے-کے	اجتماع	پاک	بوگا	تمہارے-لیے	کوئی	کام	مشقت-کا
	H2320	H7637	H0259	H2320	H4744	H6944	H1961		H3605	H4399	H5656
	لֹא	תַעֲשׂוּ	יוֹם	תְּרוּעָה	יְהוּיָהּ	לָכֶם:		تمہارے-لیے			
	نہیں	کروگے	دن	نرسنگے-کا	بوگا						
	H3808	H3117	H8643	H1961							

جائیں۔ پھونکے نرسنگے دن اس ہونا۔ اکٹھے لئے کے اجتماع مقدس بلکہ کرنا نہ کام بھی دن پندرہویں کے ماہ ساتویں

2	וְעִשְׂיָתָם	עֹלָה	לְרִיחַ	נִיחֹחַ	לְיְהוָה	פָּר	בֶּן־	בָּקָר	אֶחָד	אֶחָד
	اور-پیش-کروگے	سوختنی	خوشبو-کے-لیے	پسندیدہ	یہوواہ-کو	بیل	سال-کا	گائے	ایک	ایک
	H4503	H5560	H8081	H7969	H6241	H6499	H3068	H1241	H0259	H0259
	כֶּבֶשִׂים	בְּנֵי־	שָׁנָה	שָׁבְעָה	תְּמִימִם:					
	بڑے	سال-کے	سال	سات	بے-عیب					
	H3532	H8141	H7651	H8549						

نقص سب بچے۔ یکسالہ سات کے بھیڑ اور مینڈھا ایک بیل، جوان ایک یعنی بو پسند اسے خوشبو کی جس جائے کی پیش قربانی والی ہونے بہسم کو رب ہوں۔ بغیر کے

3	وּמִנְחָתָם	סֹלֶת	בְּלוּלָה	בַּשֶּׁמֶן	שְׁלֹשָׁה	עֶשְׂרִים	לֶפָר	שְׁנֵי	עֶשְׂרִים	אֶחָד
	اور-نذر-ان-کی	میدہ	ملائی	تیل-سے	تین	دسواں	بیل-کے-لیے	دو	دسواں	میںڑھے-کے-لیے
	H4503	H5560	H8081	H7969	H6241	H6499	H8147	H6241	H6241	

میںڈھے گرام، کلو 4 ساڑھے ساتھ کے بیل جائے۔ کیا استعمال میدہ بہترین گیا ملایا ساتھ کے تیل لئے کے جس کرنا پیش بھی نذر کی غلہ ساتھ کے جانور ہر گرام کلو 3 ساتھ کے

4	وְעֶשְׂרֹן	אֶחָד	לְכֶבֶשׂ	הָאֶחָד	לְשֶׁבַעַת	הַכֶּבֶשִׂים:
	اور-دسواں	ایک	بڑے-کے-لیے	ایک	سات-کے-لیے	بڑوں-کے
	H6241	H0259	H3532	H0259	H7651	H3532

کرنا پیش میدہ گرام کلو ڈیڑھ ساتھ کے بچے ہر کے بھیڑ اور

5	וּשְׁעִיר־	עִזִּים	אֶחָד	חֲטָאת	לְכֶפֶר	עֲלִיכם:
	اور-بکرا	بکریوں-کا	ایک	گناہ-کی-قربانی	کفارہ-کرنے-کو	تمہارے-لیے
	H5795	H0259				

جائے۔ دیا کفارہ تمہارا تاکہ کرنا پیش پر طور کے قربانی کی گناہ بھی بکرا ایک

6	מִזְבֵּחַ	עֹלֹת	הַחֹדֶשׁ	וּמִנְחָתָהּ	וְעֹלֹת	הַתְּמִיד	וּמִנְחָתָהּ	וּנְסֻכֶיהֶם
	علاوہ	سوختنی-کے	مہینے-کی	اور-نذر-اس-کی	اور-سوختنی-کے	بمیشہ-کی	اور-نذر-اس-کی	اور-تہائیں-ان-کی
	H0905	H2320	H4503	H4503	H4503	H4503	H4503	H5262

ס	כְּמוֹשֶׁפֶתִם	לְרִיחַ	נִיחֹחַ	אֲשָׁה	לְיְהוָה:	ס
ס	ضابطے-ان-کے-مطابق	خوشبو-کے-لیے	پسندیدہ	آگ-ایں	یہوواہ-کو	س
	H4941	H7381	H5207	H0801	H3068	

ہے۔ پسند کو رب خوشبو کی ان ہیں۔ علاوہ کے نذروں کی مے اور غلہ کی ساتھ کے ان اور قربانیوں کی دن پہلے کے ماہ ہر اور روزانہ قربانیاں یہ

7	וּבְעֶשְׂרֵי	לְחֹדֶשׁ	הַשְּׁבִיעִי	הַיּוֹם	מִקְרָא־	קִדְשׁ	יְהוָה	לָכֶם	וְעִנִּיתֶם	אֶת־	נִפְשֵׁיכֶם
	اور-دسویں	مہینے-کے	ساتویں	اس	اجتماع	پاک	بوگا	تمہارے-لیے	اور-دباؤگے	کو	جانوں-اپنی
	<a href="#">H6218</a>	<a href="#">H2320</a>	<a href="#">H7637</a>	<a href="#">H2088</a>	<a href="#">H4744</a>	<a href="#">H6944</a>	<a href="#">H1961</a>			<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H5315</a>

כָּל־  
کوئی

מְלֹאכָה  
کام

לֹא  
نہیں

תַּעֲשׂוּ:  
کروگے

[H3808](#)

[H4399](#)

[H3605](#)

دینا۔ دکھ کو جان اپنی اور کرنا نہ کام دن اس ہونا۔ اکٹھے لئے کے اجتماع مُقَدَّس دن دسویں کے مہینے ساتویں

8	וְהִקְרַבְתֶּם	עֹלָה	לְיְהוָה	רִיחַ	נִיחֹחַ	פָּר	בֶּן־	בָּקָר	אֶחָד	אֵיל	אֶחָד
	اور-پیش-کروگے	سوختنی	یہوواہ-کو	خوشبو	پسندیدہ	بیل	سال-کا	گائے	ایک	مینڑھا	ایک
	<a href="#">H7126</a>		<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H7381</a>	<a href="#">H5207</a>	<a href="#">H6499</a>		<a href="#">H1241</a>	<a href="#">H0259</a>	<a href="#">H0259</a>	<a href="#">H0259</a>

כִּבְשִׁים  
بڑے

בְּנֵי־  
سال-کے

שָׁנָה  
سال

שִׁבְעָה  
سات

תְּמִימִם  
بے-عیب

יְהוָה  
ہوں

לָכֶם:  
تمہارے-لیے

[H3532](#)

[H8141](#)

[H7651](#)

[H8549](#)

[H1961](#)

کے قربانی کی گناہ بکرے دو بلکہ نہیں ایک دن اس ہے، فرق ایک صرف ہیں۔ جاتی کی پیش دن پہلے کے مہینے اسی جو کرنا پیش قربانیاں وہی کو رب ہیں۔ پسند کو رب قربانیاں ایسی جائے۔ دیا کفارہ تمہارا تاکہ جائیں کئے پیش پر طور

9	וּמִנְחָתָם	סֶלֶת	בְּלוּלָה	בַּשֶּׁמֶן	שְׁלֹשָׁה	עֶשְׂרִים	לֶפָר	שְׁנַיִ	עֶשְׂרִים	לְאֵיל
	اور-نذر-ان-کی	میدہ	ملائی	تیل-سے	تین	دسواں	بیل-کے-لیے	دو	دسواں	مینڑھے-کے-لیے
	<a href="#">H4503</a>	<a href="#">H5560</a>		<a href="#">H8081</a>	<a href="#">H7969</a>	<a href="#">H6241</a>	<a href="#">H6499</a>	<a href="#">H8147</a>	<a href="#">H6241</a>	

הָאֶחָד:  
ایک

[H0259](#)

کے قربانی کی گناہ بکرے دو بلکہ نہیں ایک دن اس ہے، فرق ایک صرف ہیں۔ جاتی کی پیش دن پہلے کے مہینے اسی جو کرنا پیش قربانیاں وہی کو رب ہیں۔ پسند کو رب قربانیاں ایسی جائے۔ دیا کفارہ تمہارا تاکہ جائیں کئے پیش پر طور

10	עֶשְׂרֹן	עֶשְׂרֹן	לְכֶבֶשׂ	הָאֶחָד	לְשִׁבְעַת	הַכִּבְשִׁים:
	دسواں	دسواں	بڑے-کے-لیے	ایک	سات-کے-لیے	بروں-کے
	<a href="#">H6241</a>	<a href="#">H6241</a>	<a href="#">H3532</a>	<a href="#">H0259</a>	<a href="#">H7651</a>	<a href="#">H3532</a>

کے قربانی کی گناہ بکرے دو بلکہ نہیں ایک دن اس ہے، فرق ایک صرف ہیں۔ جاتی کی پیش دن پہلے کے مہینے اسی جو کرنا پیش قربانیاں وہی کو رب ہیں۔ پسند کو رب قربانیاں ایسی جائے۔ دیا کفارہ تمہارا تاکہ جائیں کئے پیش پر طور

11	שְׁעִיר־	עִזִּים	אֶחָד	חֲטָאת	מִלֶּבֶד	חֲטָאת	הַכִּפָּרִים	וְעֹלֹת	הַתְּמִיד
	بکرا	بکریوں-کا	ایک	گناہ-کی-قربانی	علاوہ	گناہ-کی-قربانی	کفارے-کی	اور-سوختنی-کے	بمیشہ-کی
	<a href="#">H5795</a>		<a href="#">H0259</a>		<a href="#">H0905</a>		<a href="#">H3725</a>		<a href="#">H8548</a>

וּמִנְחָתָהּ  
اور-نذر-اس-کی

וְנֹסְכֵיהֶם:  
اور-تپائیں-ان-کی

[H4503](#)

[H5262](#)

کے قربانی کی گناہ بکرے دو بلکہ نہیں ایک دن اس ہے، فرق ایک صرف ہیں۔ جاتی کی پیش دن پہلے کے مہینے اسی جو کرنا پیش قربانیاں وہی کو رب ہیں۔ پسند کو رب قربانیاں ایسی جائے۔ دیا کفارہ تمہارا تاکہ جائیں کئے پیش پر طور

12	וּבַחֲמִשָּׁה	עֶשֶׂר	אִוֹם	לְחֹדֶשׁ	הַשְּׁבִיעִי	מִקְרָא־	קִדְשׁ	יְהוָה	לָכֶם	כָּל־	מְלֹאכֶת
	اور-پندرہویں	دس	دن	مہینے-کے	ساتویں	اجتماع	پاک	بوگا	تمہارے-لیے	کوئی	کام
	<a href="#">H2568</a>	<a href="#">H6240</a>	<a href="#">H3117</a>	<a href="#">H2320</a>	<a href="#">H7637</a>	<a href="#">H4744</a>	<a href="#">H6944</a>	<a href="#">H1961</a>		<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H4399</a>

עֲבָדָה  
مشقت-کا

לֹא  
نہیں

תַּעֲשׂוּ  
کروگے

וּחֲזֹתֶם  
اور-مناؤگے

חַג  
عید

לְיְהוָה  
یہوواہ-کو

שִׁבְעַת  
سات

יָמִים:  
دن

[H5656](#)

[H3808](#)

[H2287](#)

[H3068](#)

[H7651](#)

[H3117](#)

منا۔ عید میں تعظیم کی رب تک دن سات ہونا۔ اکٹھے لئے کے اجتماع مُقَدَّس بلکہ کرنا نہ کام بھی دن پندرہویں کے مہینے ساتویں

13	וְהִקְרַבְתֶּם	עֹלָה	אִשָּׁה	רֵיחַ	נִיחֹחַ	לִיהוָה	פָּרִים	בְּנֵי־	בָּקָר	שְׁלֹשָׁה	עֶשְׂרֵ
	اور-پیش-کروگے	سوختنی	آگ-ایں	خوشبو	پسندیدہ	یہوواہ-کو	بیل	سال-کے	گائے	تیرہ	دس
	<a href="#">H7126</a>		<a href="#">H0801</a>	<a href="#">H7381</a>	<a href="#">H5207</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H6499</a>		<a href="#">H1241</a>	<a href="#">H7969</a>	<a href="#">H6240</a>
	אֵילִם	שְׁנַיִם	כִּבְשִׁים	בְּנֵי־	שָׁנָה	אֲרָבָעָה	עֶשְׂרֵ	הַמִּיּוֹם	יְהוּי:		
	میںڑھے	دو	بڑے	سال-کے	سال	چودہ	دس	بے-عیب	ہوں		
	<a href="#">H8147</a>	<a href="#">H3532</a>		<a href="#">H8141</a>	<a href="#">H0702</a>	<a href="#">H6240</a>	<a href="#">H8549</a>	<a href="#">H1961</a>			

ہے۔ پسند آسے خوشبو کی ان کرنا۔ پیش پر طور کے قربانی والی ہونے بہسم بچے یکسالہ کے بھیڑ 14 اور میںڑھے 2بیل، جوان 13 کو رب دن پہلے کے عید ہوں۔بغیر کے نقص سب

14	וּמִנְחָתָם	סֶלֶת	בָּלוּלָה	בִּשְׁמֶן	שְׁלֹשָׁה	עֶשְׂרֵ	לֶפָר	הָאֶחָד	לְשֹׁלֶשָׁה	עֶשְׂרֵ
	اور-نذر-ان-کی	میدہ	ملانی	تیل-سے	تین	دسواں	بیل-کے-لیے	ایک	تیرہ-کے-لیے	دس
	<a href="#">H4503</a>	<a href="#">H5560</a>		<a href="#">H8081</a>	<a href="#">H7969</a>	<a href="#">H6241</a>	<a href="#">H6499</a>	<a href="#">H0259</a>	<a href="#">H7969</a>	<a href="#">H6240</a>
	פָּרִים	שְׁנַיִם	עֶשְׂרֵ	לְאֵילִם	הָאֶחָד	לְשֹׁנֵי	הָאֵילִם:			
	بیلوں-کے	دو	دسواں	میںڑھے-کے-لیے	ایک	دو-کے-لیے	میںڑھوں-کے			
	<a href="#">H6499</a>	<a href="#">H8147</a>	<a href="#">H6241</a>		<a href="#">H0259</a>	<a href="#">H8147</a>				

میںڑھے ہر گرام، کلو 4 ساڑھے ساتھ کے بیل ہر جائے۔ کیا استعمال میدہ بہترین گیا ملایا سے تیل لے کے جس کرنا پیش بھی نذر کی غلہ ساتھ کے جانور ہر گرام کلو 3 ساتھ کے

15	וְעֶשְׂרֹן	עֶשְׂרֹן	לֶכְבֶּשֶׁת	הָאֶחָד	לְאֲרָבָעָה	עֶשְׂרֵ	כִּבְשִׁים:			
	اور-دسواں	دسواں	بڑے-کے-لیے	ایک	چودہ-کے-لیے	دس	بڑوں-کے			
	<a href="#">H6241</a>	<a href="#">H6241</a>	<a href="#">H3532</a>	<a href="#">H0259</a>	<a href="#">H0702</a>	<a href="#">H6240</a>	<a href="#">H3532</a>			

کرنا۔پیش میدہ گرام کلو ڈیڑھ ساتھ کے بچے ہر کے بھیڑ اور

16	וְשֵׁעִיר־	עִזִּים	אֶחָד	חֲטָאת	מִלְבָּד	עֹלֹת	הַתְּמִיד	מִנְחָתָהּ	וְנֹסְכָה:
	اور-بکرا	بکریوں-کا	ایک	گناہ-کی-قربانی	علاوہ	سوختنی-کے	بمیشہ-کی	نذر-اس-کی	اور-تپائیں-اس-کی
		<a href="#">H5795</a>	<a href="#">H0259</a>		<a href="#">H0905</a>		<a href="#">H8548</a>	<a href="#">H4503</a>	<a href="#">H5262</a>

ס  
ס

کی مے اور غلہ والی ساتھ کے ان اور قربانیوں والی ہونے بہسم کی روزانہ قربانیاں بہ کرنا۔ پیش پر طور کے قربانی کی گناہ بھی بکرا ایک علاوہ کے اس ہیں۔علاوہ کے نذروں

17	וּבְיָוִם	הַשְּׁנִי	פָּרִים	בְּנֵי־	בָּקָר	שְׁנַיִם	עֶשְׂרֵ	אֵילִם	שְׁנַיִם	כִּבְשִׁים	בְּנֵי־	שָׁנָה
	اور-دن-میں	دوسرے	بیل	سال-کے	گائے	بارہ	دس	میںڑھے	دو	بڑے	سال-کے	سال
	<a href="#">H3117</a>	<a href="#">H8145</a>	<a href="#">H6499</a>		<a href="#">H1241</a>	<a href="#">H8147</a>	<a href="#">H6240</a>	<a href="#">H8147</a>	<a href="#">H8147</a>	<a href="#">H3532</a>		<a href="#">H8141</a>

אֲרָבָעָה  
چودہ  
دس  
بے-عیب  
[H0702](#)  
[H6240](#)  
[H8549](#)

چھٹے، 9 دن پانچویں، 10 دن چوتھے، 11 دن تیسرے، 12 دن دوسرے یعنی ہو کم بیل ایک دن ہر لیکن ہیں۔ کرنی پیش قربانیاں یہی دن چھ باقی کے عید کرنا۔پیش بھی قربانیاں کی روزانہ کی معمول اور بکرا لے کے قربانی کی گناہ دن ہر بیل۔ 7 دن ساتویں اور 8 دن

18	וּמִנְחָתָם	וְנֹסְכֵיהֶם	לְפָרִים	לְאֵילִם	וְלִכְבָּשִׁים	בְּמִסְפָּרָם
	اور-نذر-ان-کی	اور-تپائیں-ان-کی	بیلوں-کے-لیے	میںڑھوں-کے-لیے	اور-بڑوں-کے-لیے	شمار-ان-کے-مطابق
	<a href="#">H4503</a>	<a href="#">H5262</a>	<a href="#">H6499</a>		<a href="#">H3532</a>	<a href="#">H4557</a>

כְּמִשְׁפָּט:  
ضابطے-کے-مطابق  
[H4941](#)

چھٹے، 9 دن پانچویں، 10 دن چوتھے، 11 دن تیسرے، 12 دن دوسرے یعنی ہو کم بیل ایک دن ہر لیکن ہیں۔ کرنی پیش قربانیاں یہی دن چھ باقی کے عید کرنا۔پیش بھی قربانیاں کی روزانہ کی معمول اور بکرا لے کے قربانی کی گناہ دن ہر بیل۔ 7 دن ساتویں اور 8 دن

19	ושעיר- اور-بکرا	עזים بکریوں-کا	אחד ایک	חטאת گناہ-کی-قربانی	מזבד علاوہ	עלת سوختنی-کے	התמיד بمیشہ-کی	ומנחתה اور-نذر-اس-کی	ונסכיחם: اور-تپائینیں-آن-کی
		<a href="#">H5795</a>	<a href="#">H0259</a>	<a href="#">H0905</a>	<a href="#">H8548</a>	<a href="#">H4503</a>	<a href="#">H5262</a>		

ס  
ס

چھٹے، 9 دن پانچویں، 10 دن چوتھے، 11 دن تیسرے، 12 دن دوسرے یعنی ہو کم بیل ایک دن ہر لیکن ہیں۔ کرنی پیش قربانیاں یہی دن چھ باقی کے عید کرنا۔ پیش بھی قربانیاں کی روزانہ کی معمول اور بکرا لئے کے قربانی کی گناہ دن ہر بیل۔ 7 دن ساتویں اور 8 دن

20	וביזם اور-دن-میں	השלישי تیسرے	פרים بیل	עשתוי- گیارہ	עשר دس	אילים مینڈھے	שנים دو	כבשים بڑے	בני- سال-کے	שנה سال	ארבעה چودہ	עשר دس
	<a href="#">H3117</a>	<a href="#">H7992</a>	<a href="#">H6499</a>	<a href="#">H6249</a>	<a href="#">H6240</a>	<a href="#">H8147</a>	<a href="#">H3532</a>	<a href="#">H8141</a>	<a href="#">H0702</a>	<a href="#">H6240</a>		

תמימם:  
بے-عیب  
[H8549](#)

چھٹے، 9 دن پانچویں، 10 دن چوتھے، 11 دن تیسرے، 12 دن دوسرے یعنی ہو کم بیل ایک دن ہر لیکن ہیں۔ کرنی پیش قربانیاں یہی دن چھ باقی کے عید کرنا۔ پیش بھی قربانیاں کی روزانہ کی معمول اور بکرا لئے کے قربانی کی گناہ دن ہر بیل۔ 7 دن ساتویں اور 8 دن

21	ומנחתם اور-نذر-آن-کی	ונסכיחם اور-تپائینیں-آن-کی	לפרים بیلوں-کے-لیے	לאילים مینڈھوں-کے-لیے	ולכבשים اور-بڑوں-کے-لیے	במספרם شمار-آن-کے-مطابق
	<a href="#">H4503</a>	<a href="#">H5262</a>	<a href="#">H6499</a>	<a href="#">H3532</a>	<a href="#">H4557</a>	

כמשפט:  
ضابطے-کے-مطابق  
[H4941](#)

چھٹے، 9 دن پانچویں، 10 دن چوتھے، 11 دن تیسرے، 12 دن دوسرے یعنی ہو کم بیل ایک دن ہر لیکن ہیں۔ کرنی پیش قربانیاں یہی دن چھ باقی کے عید کرنا۔ پیش بھی قربانیاں کی روزانہ کی معمول اور بکرا لئے کے قربانی کی گناہ دن ہر بیل۔ 7 دن ساتویں اور 8 دن

22	ושעיר اور-بکرا	חטאת گناہ-کی-قربانی	אחד ایک	מזבד علاوہ	עלת سوختنی-کے	התמיד بمیشہ-کی	ומנחתה اور-نذر-اس-کی	ונסכיחם: اور-تپائینیں-اس-کی
		<a href="#">H0259</a>	<a href="#">H0905</a>	<a href="#">H8548</a>	<a href="#">H4503</a>	<a href="#">H5262</a>		

چھٹے، 9 دن پانچویں، 10 دن چوتھے، 11 دن تیسرے، 12 دن دوسرے یعنی ہو کم بیل ایک دن ہر لیکن ہیں۔ کرنی پیش قربانیاں یہی دن چھ باقی کے عید کرنا۔ پیش بھی قربانیاں کی روزانہ کی معمول اور بکرا لئے کے قربانی کی گناہ دن ہر بیل۔ 7 دن ساتویں اور 8 دن

23	וביזם اور-دن-میں	הרביעי چوتھے	פרים بیل	עשרה دس	אילים مینڈھے	שנים دو	כבשים بڑے	בני- سال-کے	שנה سال	ארבעה چودہ	עשר دس
	<a href="#">H3117</a>	<a href="#">H7243</a>	<a href="#">H6499</a>	<a href="#">H6235</a>	<a href="#">H8147</a>	<a href="#">H3532</a>	<a href="#">H8141</a>	<a href="#">H0702</a>	<a href="#">H6240</a>		

תמימם:  
بے-عیب  
[H8549](#)

چھٹے، 9 دن پانچویں، 10 دن چوتھے، 11 دن تیسرے، 12 دن دوسرے یعنی ہو کم بیل ایک دن ہر لیکن ہیں۔ کرنی پیش قربانیاں یہی دن چھ باقی کے عید کرنا۔ پیش بھی قربانیاں کی روزانہ کی معمول اور بکرا لئے کے قربانی کی گناہ دن ہر بیل۔ 7 دن ساتویں اور 8 دن

24	ומנחתם نذر-آن-کی	ונסכיחם اور-تپائینیں-آن-کی	לפרים بیلوں-کے-لیے	לאילים مینڈھوں-کے-لیے	ולכבשים اور-بڑوں-کے-لیے	במספרם شمار-آن-کے-مطابق
	<a href="#">H4503</a>	<a href="#">H5262</a>	<a href="#">H6499</a>	<a href="#">H3532</a>	<a href="#">H4557</a>	

כמשפט:  
ضابطے-کے-مطابق  
[H4941](#)

چھٹے، 9 دن پانچویں، 10 دن چوتھے، 11 دن تیسرے، 12 دن دوسرے یعنی ہو کم بیل ایک دن ہر لیکن ہیں۔ کرنی پیش قربانیاں یہی دن چھ باقی کے عید کرنا۔ پیش بھی قربانیاں کی روزانہ کی معمول اور بکرا لئے کے قربانی کی گناہ دن ہر بیل۔ 7 دن ساتویں اور 8 دن

25	ושעיר- اور-بکرا	עזים بکریوں-کا	אחד ایک	חטאת گناہ-کی-قربانی	מזבח علاوہ	עלת سوختنی-کے	התמיד بمیشہ-کی	מנחתה نذر-اس-کی	ונסקחה: اور-تپائین-اس-کی
		<a href="#">H5795</a>	<a href="#">H0259</a>		<a href="#">H0905</a>		<a href="#">H8548</a>	<a href="#">H4503</a>	<a href="#">H5262</a>

ס  
ס

چھٹے، 9 دن پانچویں، 10 دن چوتھے، 11 دن تیسرے، 12 دن دوسرے یعنی ہو کم بیل ایک دن ہر لیکن ہیں۔ کرنی پیش قربانیاں یہی دن چھ باقی کے عید کرنا۔ پیش بھی قربانیاں کی روزانہ کی معمول اور بکرا لئے کے قربانی کی گناہ دن ہر بیل۔ 7 دن ساتویں اور 8 دن

26	וביזם اور-دن-میں	החמישי پانچویں	פרים بیل	תשעה نو	אילם میںڑھے	שנים دو	כבשים بڑے	בני- سال-کے	שנה سال	ארבעה چودہ	עשר دس
	<a href="#">H3117</a>	<a href="#">H2549</a>	<a href="#">H6499</a>	<a href="#">H8672</a>	<a href="#">H8147</a>	<a href="#">H3532</a>		<a href="#">H8141</a>	<a href="#">H1702</a>	<a href="#">H6240</a>	

תמימים:  
بے-عیب  
[H8549](#)

چھٹے، 9 دن پانچویں، 10 دن چوتھے، 11 دن تیسرے، 12 دن دوسرے یعنی ہو کم بیل ایک دن ہر لیکن ہیں۔ کرنی پیش قربانیاں یہی دن چھ باقی کے عید کرنا۔ پیش بھی قربانیاں کی روزانہ کی معمول اور بکرا لئے کے قربانی کی گناہ دن ہر بیل۔ 7 دن ساتویں اور 8 دن

27	ומנחתם اور-نذر-آن-کی	ונסקיחם اور-تپائین-آن-کی	לפרים بیلوں-کے-لیے	לאילם میںڑھوں-کے-لیے	ולכבשים اور-بڑوں-کے-لیے	במספרם شمار-آن-کے-مطابق
	<a href="#">H4503</a>	<a href="#">H5262</a>	<a href="#">H6499</a>		<a href="#">H3532</a>	<a href="#">H4557</a>

כמשפט:  
ضابطے-کے-مطابق  
[H4941](#)

چھٹے، 9 دن پانچویں، 10 دن چوتھے، 11 دن تیسرے، 12 دن دوسرے یعنی ہو کم بیل ایک دن ہر لیکن ہیں۔ کرنی پیش قربانیاں یہی دن چھ باقی کے عید کرنا۔ پیش بھی قربانیاں کی روزانہ کی معمول اور بکرا لئے کے قربانی کی گناہ دن ہر بیل۔ 7 دن ساتویں اور 8 دن

28	ושעיר اور-بکرا	חטאת گناہ-کی-قربانی	אחד ایک	מזבח علاوہ	עלת سوختنی-کے	התמיד بمیشہ-کی	ומנחתה اور-نذر-اس-کی	ונסקחה: اور-تپائین-اس-کی
		<a href="#">H0259</a>	<a href="#">H0905</a>			<a href="#">H8548</a>	<a href="#">H4503</a>	<a href="#">H5262</a>

چھٹے، 9 دن پانچویں، 10 دن چوتھے، 11 دن تیسرے، 12 دن دوسرے یعنی ہو کم بیل ایک دن ہر لیکن ہیں۔ کرنی پیش قربانیاں یہی دن چھ باقی کے عید کرنا۔ پیش بھی قربانیاں کی روزانہ کی معمول اور بکرا لئے کے قربانی کی گناہ دن ہر بیل۔ 7 دن ساتویں اور 8 دن

29	וביזם اور-دن-میں	הששי چھٹے	פרים بیل	שמונה آٹھ	אילם میںڑھے	שנים دو	כבשים بڑے	בני- سال-کے	שנה سال	ארבעה چودہ	עשר دس	תמימים: بے-عیب
	<a href="#">H3117</a>	<a href="#">H8345</a>	<a href="#">H6499</a>	<a href="#">H8083</a>	<a href="#">H8147</a>	<a href="#">H3532</a>		<a href="#">H8141</a>	<a href="#">H1702</a>	<a href="#">H6240</a>		<a href="#">H8549</a>

چھٹے، 9 دن پانچویں، 10 دن چوتھے، 11 دن تیسرے، 12 دن دوسرے یعنی ہو کم بیل ایک دن ہر لیکن ہیں۔ کرنی پیش قربانیاں یہی دن چھ باقی کے عید کرنا۔ پیش بھی قربانیاں کی روزانہ کی معمول اور بکرا لئے کے قربانی کی گناہ دن ہر بیل۔ 7 دن ساتویں اور 8 دن

30	ומנחתם اور-نذر-آن-کی	ונסקיחם اور-تپائین-آن-کی	לפרים بیلوں-کے-لیے	לאילם میںڑھوں-کے-لیے	ולכבשים اور-بڑوں-کے-لیے	במספרם شمار-آن-کے-مطابق
	<a href="#">H4503</a>	<a href="#">H5262</a>	<a href="#">H6499</a>		<a href="#">H3532</a>	<a href="#">H4557</a>

כמשפט:  
ضابطے-کے-مطابق  
[H4941](#)

چھٹے، 9 دن پانچویں، 10 دن چوتھے، 11 دن تیسرے، 12 دن دوسرے یعنی ہو کم بیل ایک دن ہر لیکن ہیں۔ کرنی پیش قربانیاں یہی دن چھ باقی کے عید کرنا۔ پیش بھی قربانیاں کی روزانہ کی معمول اور بکرا لئے کے قربانی کی گناہ دن ہر بیل۔ 7 دن ساتویں اور 8 دن

31	ישׁעיר	חטאת	אָהר	מִלְבָּד	עֹלֹת	הַתָּמִיד	מִנְחָתָהּ	וְנִסְכֶיהָ:	פ
	اور-بکرا	گناہ-کی-قربانی	ایک	علاوہ	سوختنی-کے	بمیشہ-کی	نذر-اس-کی	اور-تپائیں-اس-کی	פ
			<a href="#">H0259</a>	<a href="#">H0905</a>		<a href="#">H8548</a>	<a href="#">H4503</a>	<a href="#">H5262</a>	

چھٹے، 9 دن پانچویں، 10 دن چوتھے، 11 دن تیسرے، 12 دن دوسرے یعنی ہو کم بیل ایک دن ہر لیکن ہیں۔ کرنی پیش قربانیاں یہی دن چھ باقی کے عید کرنا۔ پیش بھی قربانیاں کی روزانہ کی معمول اور بکرا لے کے قربانی کی گناہ دن ہر بیل۔ 7 دن ساتویں اور 8 دن

32	וּבֵיּוֹם	הַשְּׂבִיעִי	פָּרִים	שְׁבַעַה	אֵילִם	כִּבְשִׁים	בְּנֵי־	שְׁנָה	אַרְבַּעַה	עֶשֶׂר
	اور-دن-میں	ساتویں	بیل	سات	میںڑھے	دو	سال-کے	سال	چودہ	دس
	<a href="#">H3117</a>	<a href="#">H7637</a>	<a href="#">H6499</a>	<a href="#">H7651</a>		<a href="#">H8147</a>		<a href="#">H8141</a>	<a href="#">H0702</a>	<a href="#">H6240</a>

תְּמִימִם:

بے-عیب  
[H8549](#)

چھٹے، 9 دن پانچویں، 10 دن چوتھے، 11 دن تیسرے، 12 دن دوسرے یعنی ہو کم بیل ایک دن ہر لیکن ہیں۔ کرنی پیش قربانیاں یہی دن چھ باقی کے عید کرنا۔ پیش بھی قربانیاں کی روزانہ کی معمول اور بکرا لے کے قربانی کی گناہ دن ہر بیل۔ 7 دن ساتویں اور 8 دن

33	וּמִנְחָתָם	וְנִסְכֵיהֶם	לְפָרִים	לְאֵילִם	וְלִכְבָּשִׁים	כִּמְסַפְּרָם			
	اور-نذر-آن-کی	اور-تپائیں-آن-کی	بیلوں-کے-لیے	میںڑھوں-کے-لیے	اور-بڑوں-کے-لیے	شمار-آن-کے-مطابق			
	<a href="#">H4503</a>	<a href="#">H5262</a>	<a href="#">H6499</a>		<a href="#">H3532</a>	<a href="#">H4557</a>			

כִּמְשַׁפְּטָם:

ضابطے-آن-کے-مطابق  
[H4941](#)

چھٹے، 9 دن پانچویں، 10 دن چوتھے، 11 دن تیسرے، 12 دن دوسرے یعنی ہو کم بیل ایک دن ہر لیکن ہیں۔ کرنی پیش قربانیاں یہی دن چھ باقی کے عید کرنا۔ پیش بھی قربانیاں کی روزانہ کی معمول اور بکرا لے کے قربانی کی گناہ دن ہر بیل۔ 7 دن ساتویں اور 8 دن

34	ישׁעיר	חטאת	אָהר	מִלְבָּד	עֹלֹת	הַתָּמִיד	מִנְחָתָהּ	וְנִסְכֶיהָ:	פ
	اور-بکرا	گناہ-کی-قربانی	ایک	علاوہ	سوختنی-کے	بمیشہ-کی	نذر-اس-کی	اور-تپائیں-اس-کی	פ
			<a href="#">H0259</a>	<a href="#">H0905</a>		<a href="#">H8548</a>	<a href="#">H4503</a>	<a href="#">H5262</a>	

چھٹے، 9 دن پانچویں، 10 دن چوتھے، 11 دن تیسرے، 12 دن دوسرے یعنی ہو کم بیل ایک دن ہر لیکن ہیں۔ کرنی پیش قربانیاں یہی دن چھ باقی کے عید کرنا۔ پیش بھی قربانیاں کی روزانہ کی معمول اور بکرا لے کے قربانی کی گناہ دن ہر بیل۔ 7 دن ساتویں اور 8 دن

35	בַּיּוֹם	הַשְּׂמִינִי	עֶצְרַת	תְּהִיָּה	לְכֶם	כָּל־	מְלֶאכֶת	עֲבֹדָה	לֹא	תַעֲשׂוּ:
	دن-میں	آٹھویں	اختتامی-اجتماع	ہوگا	تمہارے-لیے	کوئی	کام	مشقت-کا	نہیں	کروگے
	<a href="#">H3117</a>	<a href="#">H8066</a>	<a href="#">H6116</a>	<a href="#">H1961</a>		<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H4399</a>	<a href="#">H5656</a>	<a href="#">H3808</a>	

ہونا۔ اکٹھے لے کے اجتماع مُقَدَّس بلکہ کرنا نہ کام دن آٹھویں کے عید

36	וְהִקְרַבְתֶּם	עֹלָה	אִשָּׁה	רֵיחַ	נִיחֹחַ	לִיהִזָּה	פָּר	אָהר	אֵיל	אָהר	כִּבְשִׁים
	اور-پیش-کروگے	سوختنی	آگ-ایں	خوشبو	پسنیدہ	یہوواہ-کو	بیل	ایک	میںڑھا	ایک	بڑے
	<a href="#">H7126</a>		<a href="#">H0801</a>	<a href="#">H7381</a>	<a href="#">H5207</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H6499</a>	<a href="#">H0259</a>		<a href="#">H0259</a>	<a href="#">H3532</a>

בְּנֵי־  
سال-کے  
שְׁנָה  
سال  
שְׁבַעַה  
سات  
תְּמִימִם:  
بے-عیب  
[H8549](#)

نقص سب ہے۔ پسند کو رب خوشبو کی ان کرنا۔ پیش پر طور کے قربانی والی ہونے بھسم بچے یکسالہ سات کے بھیڑ اور میںڑھا ایک بیل، جوان ایک کو رب ہوں۔ بغیر کے

37	מִנְחָתָם	וְנִסְכֵיהֶם	לְפָר	לְאֵילִם	וְלִכְבָּשִׁים	כִּמְסַפְּרָם	כִּמְשַׁפְּטָם:		
	نذر-آن-کی	اور-تپائیں-آن-کی	بیل-کے-لیے	میںڑھے-کے-لیے	اور-بڑوں-کے-لیے	شمار-آن-کے-مطابق	ضابطے-کے-مطابق		
	<a href="#">H4503</a>	<a href="#">H5262</a>	<a href="#">H6499</a>		<a href="#">H3532</a>	<a href="#">H4557</a>	<a href="#">H4941</a>		

ہیں۔ جاتی کی پیش دن پہلے جو کرنا پیش بھی قربانیاں تمام وہ ہی ساتھ

38	ישׁעִיר	חֲטָאת	אֶחָד	מִלְבָּד	עֲלֹת	הַתָּמִיד	וּמִנְחָתָהּ	וְנִסְכָּהּ:
	اور-بکرا	گناہ-کی-قربانی	ایک	علاوہ	سوختنی-کے	بمیشہ-کی	اور-نذر-اس-کی	اور-تپائیں-اس-کی
			<a href="#">H0259</a>	<a href="#">H0905</a>		<a href="#">H8548</a>	<a href="#">H4503</a>	<a href="#">H5262</a>

بیں-جاتی کی پیش دن پہلے جو کرنا پیش بھی قربانیاں تمام وہ ہی ساتھ

39	אֵלֶּה	תְּעֹשׂוּ	לַיהוָה	בְּמוֹעֲדֵיכֶם	לְבָד	מִנְדְּרֵיכֶם	וְנִדְבְּתֵיכֶם
	یہ	پیش-کرو گے	یہوواہ-کو	عیدوں-تمہاری-میں	علاوہ	نذروں-تمہاری-کے	اور-نفلوں-تمہاری
	<a href="#">H0428</a>		<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H4150</a>	<a href="#">H0905</a>	<a href="#">H5088</a>	<a href="#">H5071</a>

لְעֹלְתֵיכֶם	וּלְמִנְחֹתֵיכֶם	וּלְנִסְכֵיכֶם	וּלְשִׁלְמֵיכֶם:
سوختنیوں-تمہاری-کے-لیے	اور-نذروں-تمہاری	اور-تپائیں-تمہاری	اور-سلامتیوں-تمہاری
<a href="#">H4503</a>		<a href="#">H5262</a>	<a href="#">H8002</a>

دیتے کر مان مَنّت یا سے خوشی دلی تم جو ہیں علاوہ کے قربانیوں تمام اُن یہ ہیں۔ کرنی پیش پر عیدوں اپنی کو رب تمہیں جو ہیں قربانیاں وہی سب یہ ہوں۔ نہ کیوں قربانیاں کی سلامتی یا کی مے کی، غلہ والی، ہونے بھسم وہ چاہے ہو،

40	וַיֹּאמֶר	מֹשֶׁה	אֵל-	בְּנֵי	יִשְׂרָאֵל	כָּכָל	אֲשֶׁר-	צִוָּה	יְהוָה	אֶת-	מֹשֶׁה:
	اور-کہا	موسیٰ-نے	سے	بنی	اسرائیل	مطابق	سب-جو	حکم-دیا	یہوواہ-نے	کو	موسیٰ
	<a href="#">H0559</a>	<a href="#">H4872</a>	<a href="#">H0413</a>		<a href="#">H3478</a>	<a href="#">H3605</a>		<a href="#">H6680</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H4872</a>

دیں۔ بتا کو اسرائیلیوں ہدایات تمام بہ کی رب نے موسیٰ